

۱۔ اے خالد! او اور اپنا سبتی پڑھو۔ ۲۔ اے عبد اللہ! بازار کو جاؤ، اور گوشت خریدو۔ ۳۔ اے دونوں لڑکیوں علم حاصل کرو۔ ۴۔ اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ ۵۔ میرے بھائی سردی زیادہ ہو گئی ہے، دروازہ بند کر دو۔ ۶۔ اے لڑکی خاموش ہو جا اور اپنی جگہ پر بیٹھ جا۔ ۷۔ اُن دونوں عورتوں کو پسیمات کہنا چاہیے۔ ۸۔ اُن سب آدمیوں کو جنگل میں شکار کھیننا چاہیے۔ ۹۔ اُن سب عورتوں کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو ضرور ضائع کر دے گا۔ ۱۱۔ اے حامد! اپنے بھائی کے استقبال کے لیے تو ضرور پیشین پر جا۔ ۱۲۔ حامد کا بٹوہ چھینا جانا چاہیے۔ ۱۳۔ اے لڑکی! سنیما مت جاؤ۔ ۱۴۔ اس ایک عورت کو غضبناک نہیں ہونا چاہیے۔ ۱۵۔ ہم کو دروازہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔

ترجمہ: ۱۔ یا خالد! جی و اقر! درُ سَک۔ ۲۔ یا عبد اللہ! اذْهَبْ اِلَى السُّوقِ وَ اشْتَرِ لِحْمًا۔ ۳۔ یا ابنتا! اخْصَلَا الْعِلْمَ۔ ۴۔ یا ایتھما! النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ ۵۔ یا اخی! قَدْ اشْتَدَّ الْبَرْدُ فَاغْلِقِ الْبَابَ۔ ۶۔ یا ایتھما! الْإِبْنَةُ أُسْكُنِي وَ اجْلِسِي عَلَى مَوْضِعَتِكَ۔ ۷۔ لَتَصُدَّقَا۔ ۸۔ لَتَتَصَيَّدَا فِي الْبَادِيَةِ۔ ۹۔ لَيَصْنَعَنَّ۔ ۱۰۔ لَيَحْبِطَنَّ اللَّهُ أَعْمَالُ الْكَافِرِينَ۔ ۱۱۔ یا حامد! اذْهَبْ عَلَى الْحَظَةِ لِاسْتِقْبَالِ الْكَرِيمِ، اُنْخِلْ۔ ۱۲۔ لَيُسَلَبَ كَيْسُ حَامِدٍ۔ ۱۳۔ یا أولاد! لَا تَزُورُوا دَارَ التَّمَاثِيلِ۔ ۱۴۔ لَا تَغْضَبُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ۔ ۱۵۔ لَا نَجْلِسُ فِي الْبَابِ۔



۱۔ النَّسَاءُ اقْوَى مِنَ الرِّجَالِ هَذِهِ الْآيَاتُ ۲۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَسَوَاسِ  
 الصُّدُورِ ۳۔ كَانَ حُجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ سَقَاكًا ۴۔ اجْتَنِبُوا الْكَذَّابَ  
 فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَصَدِيقِهِ ۵۔ تِلْكَ الْمَرْءَةُ  
 مِنْطِيقٌ ۶۔ هُوَ عَلَاصَةُ دَهْرٍ ۷۔ لَا يُحِبُّ الْأَكُولُ ۸۔ هَبَا  
 أَصْغَرَانِ صَبِيٍّ ۹۔ زَيْنَبُ بِنْتُهُ الْكُبْرَى ۱۰۔ هَذَا الْقِرَاطُ  
 أَكْثَرُ بَيَاضًا مِنْ قِرَاطِ سَلَكٍ ۱۱۔

ترجمہ: ۱۔ عورتیں ان دنوں آدمیوں سے زیادہ طاقتور ہیں ۲۔ اللہ سینوں کے وسوسوں کو  
 بھی جانتا ہے ۳۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا ۴۔ بہت زیادہ جھوٹے شخص  
 سے بچو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آدمی اور اس کے دوست میں جدائی کر دے ۵۔ وہ  
 عورت بہت زیادہ بولنے والی ہے ۶۔ وہ اپنے زمانہ کا بہت بڑا عالم ہے ۷۔  
 بہت زیادہ کھانے والے کو پسند نہیں کیا جاتا ۸۔ وہ دونوں مجھ سے  
 چھوٹے ہیں ۹۔ زینب اس کی بڑی بیٹی ہے ۱۰۔ یہ کاغذ تمہارے کاغذ  
 سے زیادہ سفید ہے ۱۱۔



۱۔ درختوں کی شاخیں - ۲۔ نروں کے پانی - ۳۔ اللہ کا رسول - ۴۔ چاند کی روشنی  
 ۵۔ اُونٹ کا گوشت اور بکری کا دودھ - ۶۔ ہیڈ ماسٹر کا نوکر - ۷۔ روم کے بادشاہ  
 کے محل کے دروازے - ۸۔ تھانیدار کی گائے کے دو سینگ - ۹۔ پاکستان  
 کے مسلمان کے ارادے - ۱۰۔ پڑوسی کے گھر کے دروازے کی بڑی کتھی - ۱۱۔  
 گھر کے دروازے اور گھر کیاں - ۱۲۔ نانبائی کی بیٹی کی دو نوکرانیاں - ۱۳۔ ہندوستان  
 کے مسلمانوں کا صبر - ۱۴۔ علم کا طلب کرنے والا - ۱۵۔ وزیر کی بیٹی کی دو چکنے  
 والی آنکھیں -

ترجمہ : ۱۔ أَغْصَانُ الْأَشْجَارِ - ۲۔ مِيَاهُ الْأَنْهَارِ - ۳۔ رَسُولُ اللَّهِ - ۴۔  
 نُورُ الْقَمَرِ - ۵۔ لَحْمُ الْجَمَلِ وَلَبَنُ الْمَعْزِ - ۶۔ خَادِمُ سَرِيْسِ  
 الْمَدْرِ سَةِ - ۷۔ بَابَا قُصْرِ مَلِكِ الرُّومِ - ۸۔ قَرْنَا بَقَرَةٍ  
 صَاحِبِ الشُّرْطَةِ - ۹۔ عَزَائِمُ مُسْلِمِي الْبَاكِسْتَانِ - ۱۰۔  
 مُفْتَاَحُ بَابِ بَيْتِ الْحَجَارِ الْكَبِيرِ - ۱۱۔ أَيَوَابُ الْبَيْتِ وَنَوَافِذُهُ  
 ۱۲۔ خَادِمَتَا بَيْتِ الْخَبَّازِ - ۱۳۔ صَبْرُ مُسْلِمِي الْهِنْدِ - ۱۴۔ طَالِبُ عِلْمٍ  
 ۱۵۔ عَيْنَا بِنْتُ الْوَزِيرِ اللَّامِعَتَانِ -



۱۔ لَعَلَّ الْفَيْلَ الْأَبْيَضَ شَيْءٌ عَجِيبٌ - ۲۔ كَيْتَ أَخِي كَانَ جَوَادًا - ۳۔ كَيْتَ  
هَذِهِ الْأَثْمَارُ كَانَتْ لَزِيذَةً - ۴۔ لَعَلَّ الْوَلَدَ قَطِينًا - ۵۔ كَانَتْ  
الْبِنْتُ تَطْبَخُ الطَّعَامَ كُلَّ يَوْمٍ - ۶۔ كَيْتَ الْمَلِكِ عَادِلٌ - ۷۔ كَانَ  
رَبِيسُ الْكَلْبَةِ يَزُورُ الْمَلْعَبَ كُلَّ مَسَاءٍ - ۸۔ كَانَ خَادِمِي يَلْبِسُ ثِيَابًا  
وَسِيمَةً - ۹۔ كُنْتُمْ تَصْبَغُونَ الْعَمَائِمَ - ۱۰۔ كَانَ التَّلْمِيزُ  
يَحْفَظُ الدَّرْسَ -

ترجمہ: ۱۔ شاید سفید ہاتھی عجیب چیز ہو گا - ۲۔ کاش میرا بھائی سخی ہوتا - ۳۔ کاش  
یہ پھل لذیذ ہوتے - ۴۔ شاید کہ لڑکا سمجھدار ہو - ۵۔ لڑکی ہر روز کھانا پکایا  
کرتی تھی - ۶۔ کاش بادشاہ انصاف پسند ہوتا - ۷۔ کالج کے پرنسپل ہر روز  
شام کو گراؤنڈ میں آیا کرتے تھے - ۸۔ میرا نوکر میلے کپڑے پہنا کرتا تھا -  
۹۔ تم سب آدمی پگڑیاں رنگا کرتے تھے - ۱۰۔ شاگرد سبق یاد کیا کرتا تھا -



- ۱۔ اس عورت کی اورٹھنی میلی ہے۔ ۲۔ ان دونوں آدمیوں کا لہو کُبرٹا ہے۔ ۳۔ تو ایک مومن عورت ہے۔ ۴۔ اُن سب آدمیوں کا گھر صاف ستھرا ہے۔ ۵۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ۶۔ تم سب عورتیں عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ ۷۔ ان سب آدمیوں نے اُسے جنگل میں قتل کیا۔ ۸۔ اے لوگو! صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ۹۔ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ۱۰۔ کیا یہ تمہارے بھائی کی کتاب نہیں ہے۔ ۱۱۔ ہماری زبان عربی ہے اور اُن کی زبان اردو ہے۔ ۱۲۔ تو خدا کے سپرد ہے۔ ۱۳۔ میرے پاس اس وقت ایک تاجر بیٹھا تھا۔ ۱۴۔ وہی لوگ ہی بدترین مخلوقات ہیں۔ ۱۵۔ اس لڑکی کا طوطا پالتو ہے۔

- ترجمہ: ۱۔ اِنْجَمَارُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَ سَخَّ ۲۔ خَادِمُهَا اَحْدَابُ ۳۔ اَنْتِ مُؤْمِنَةٌ ۴۔ بَيْنْتُهُمْ نَظِيفٌ ۵۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ ۶۔ خُلِقْتَنَ لِلْعِبَادَةِ ۷۔ قَتَلُوهُ فِي الْبَادِيَةِ ۸۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِيَّايَ فَاتَّقَوْنَ ۹۔ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۱۰۔ اَلَيْسَ هَذَا كِتَابِ اَخِيكَ ۱۱۔ لِسَانُنَا عَرَبِيٌّ وَلِسَانُهُمْ اُرْدِيَّةٌ ۱۲۔ اَنْتَ فِي ذِمَّةِ اللّٰهِ ۱۳۔ كَانَ تَاجِرٌ جَالِسًا عِنْدِي وَقَتَبِذِ ۱۴۔ اُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۱۵۔ بَبِغَاءِ هَذِهِ الْاَيُّتَةِ اَهْلِيَّ



۱۔ سَقَطَ الْإِبْرِيْقُ مِنْ يَدِي وَالْكَسْرَ - ۲۔ هَلْ ذَهَبْتَ إِلَى دَارِ  
 التَّهَاتِيلِ يَوْمَ قَبْلِ الْأَمْسِ - ۳۔ غَلِقْتُ أَبْوَابَ الْمَدْرِسَةِ - ۴۔  
 وَجَدْتُ الصُّرَّةَ فِي وَسْطِ الطَّرِيقِ - ۵۔ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَدِينَةِ  
 بِالْكَرْبِ الْعَظِيمِ - ۶۔ جُلِدَ الزَّانِي فِي الْيَدِ انْ عَمَسَ عَشْرَةَ جِلْدَةً -  
 ۷۔ قَبِضَ الشَّرْطِيُّ عَلَى قَاطِعِ طَرِيقٍ - ۸۔ مَتَى تَرْجِعُ عَنْ أَوْرَبَا - ۹۔  
 قَدْ نَسِيتُ إِسْمَكَ يَا يَهَا الرَّجُلُ - ۱۰۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا  
 الْإِحْسَانُ -

جملہ: ۱۔ لوٹا میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ ۲۔ کیا تو پرسوں سنیا گیا تھا۔ ۳۔ سکول  
 کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ ۴۔ پھیلی راستہ کے درمیان میں پائی گئی۔ ۵۔  
 یہ خبر شہر میں بڑے دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ ۶۔ زنا کار کو میدان میں پندرہ کوڑے  
 لگائے گئے۔ ۷۔ پولیس والے نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا۔ ۸۔ تم یورپ سے کب  
 واپس لوٹو گے۔ ۹۔ اے شخص میں تمہارا نام بھول گیا ہوں۔ ۱۰۔ کیا احسان  
 کا بدلہ احسان کے علاوہ اور بھی کچھ ہے۔



- ۳۔ مندرجہ ذیل
- ۱۔ اِنْدَ مَلَتْ جَمِيعُ جُرُوحِ الْمَرِيضِ فِي الْمُسْتَشْفَى بِعِلَاجِ الطَّبِيبِ (الدكتور)
  - ۲۔ اَخَذَ اللّٰصُوصُ يَتَخَاصِمُونَ اِمَامَ الْقَاضِي - ۳۔ اَللّٰهُمَّ اِشْرَحْ صُدُورَ الْكَفَّارِ لِلْاِسْلَامِ - ۴۔ قَدْ رَجَعَ الْعَسَاكِرُ مِنْ حَرْبِ كُورِيَا - ۵۔ اِنْطَلَقَ النَّاسُ اِلَى بَيْتِ الْوَلِيِّ بِهَيْئَةٍ وَفُدٍ - ۶۔ مَا اِنْهَضَمَ الطَّعَامُ فِي مِعْدَتِي الْيَوْمَ لِثِقَلِهِ - ۷۔ قَدْ اِنْقَطَعَ رَجَائِي فِي هَذَا الْاَمْرِ - ۸۔ قَدْ تَنْقَلَبَتِ الدَّوْلَةُ مِنْ حَيٍّ اِلَى حَيٍّ - ۹۔ اِنْقَبَضَتْ طَبْعِي (طَبِيعَتِي) بِسَمَاعِ هَذَا الْخَبَرِ - ۱۰۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ -

ترجمہ: ۱۔ ہسپتال میں مریض کے تمام زخم ڈاکٹر کے علاج سے مندمل ہو گئے۔ ۲۔ چور منصف کے سامنے جھگڑا کرنے لگ گئے۔ ۳۔ اے اللہ کافروں کے سینے اسلام کے لیے کھول دے۔ ۴۔ لشکر کوریا کی جنگ سے واپس آ گئے ہیں۔ ۵۔ لوگ حاکم کے گھر کی طرف ایک وفد کی صوت میں روانہ ہو گئے۔ ۶۔ آج کھانا ثقیل ہونے کی وجہ سے میرے معدہ میں ہضم نہیں ہوا۔ ۷۔ اس معاملہ میں میری اُمید ٹوٹ گئی ہے۔ ۸۔ سلطنت ایک قبیلہ سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ ۹۔ میری طبیعت اس خبر کے سُننے سے مکدر ہو گئی ہے۔ ۱۰۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔



۱۔ ایک مسکین آدمی مسجد میں داخل ہوا تھا۔ ۲۔ کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے۔  
 ۳۔ تنگ جوتے بلا شبہ پاؤں کو تکلیف دیتا ہے۔ ۴۔ میں نے ایسے سمندر میں سفر کیا  
 جس کی موجیں تلاطم پیدا کر رہی تھیں۔ ۵۔ خالد ایسے بالا خانہ میں سویا جس کی کھڑکیاں  
 کھلی تھیں۔ ۶۔ ہم نے ایک غوطہ خور دیکھا جو تالاب میں غوطے لگا رہا تھا۔ ۷۔ میں نے  
 ایسے باغ میں سیر کی جس کے پھول تروتازہ تھے۔ ۸۔ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا عالم  
 رہتا ہے کہ اس کا علم نفع دینے والا ہے۔ ۹۔ میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس کا  
 باپ اُستاد ہے۔ ۱۰۔ میں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے کہ اُس کا ماموں  
 اپنے زمانہ کا علامہ ہے۔ ۱۱۔ زید دوسری جنگِ عظیم میں قتل ہوا تھا، جنگِ عظیم میں  
 ۱۲۔ میرا تو بیہ چوری ہو گیا ہے۔ ۱۳۔ میں وطن کو جاؤں گا وطن کو۔ ۱۴۔ خلیفہ نے امیر کو  
 خود حکم دیا کہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ جائے۔ ۱۵۔ ہم نے سب کے سب مساکین  
 اور فقروں کو کھانا کھلایا۔

ترجمہ : ۱۔ کان رجلٌ مسکینٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ۔ ۲۔ قَدْ یَصْدُقُ الْكَاذِبُ۔ ۳۔  
 إِنَّ الْمَدَاسَ الضَّیْقَ یَضُرُّ الرَّجُلَ۔ ۴۔ سَافَرْتُ فِی بَحْرِ مُتَلَاطِمَةٍ اَمَاجِدُ  
 ۵۔ نَامَتْ هَالِدٌ فِی غُرْفَةٍ مَفْتُوحَةٍ نَوَافِذُهَا۔ ۶۔ رَاَیْنَا غَوَّامًا یَغُوصُ  
 فِی الْبَرَكَةِ۔ ۷۔ سَوْتُ فِی حَدِیْقَةِ غَضٍّ اَزْهَارُهَا۔ ۸۔ یَسْكُنُ فِی قَرِیْنَتِنَا  
 عَالِمٌ نَافِعٌ عَلَیْهِ۔ ۹۔ لَقِیْتُ وَلَدًا مُعَلِّمًا اَبُوهُ۔ ۱۰۔ سَافَرْتُ مَعَ رَجُلٍ  
 خَالَهُ عَلَامَةُ الدَّهْرِ۔ ۱۱۔ قُتِلَ زَیْدٌ فِی الْحَرْبِ الْكُبْرَى الثَّانِیَةِ الْحَرْبِ الْكُبْرَى  
 ۱۲۔ قَدْ سَرِقَ مِنْ شَفِی۔ ۱۳۔ اَذْهَبُ اِلَى الْوَطَنِ اِلَى الْوَطَنِ۔ ۱۴۔ اَمْرًا خَلِیْفَةً  
 اِلَى نَفْسِهِ اَنْ یَذْهَبَ اِلَى مَكَّةَ لِادَاءِ فَرِیضَةِ الْحَجِّ۔ ۱۵۔ اطْعَمْنَا جَمِیْعَ  
 الْمَسَاكِیْنِ وَالْفُقَرَاءِ۔



۳۔ اِرْوِیْیْنَ - ۱۔ یَاخَادِمَةُ حَیْهَلُ الْعَسَلِ وَالرَّوْبَ وَالْخَلَّ - ۲۔ یَا اَیُّهَا النَّاسُ هَا لِلَّصِّ -

۳۔ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَاتُ وَعَدُ وَنْ - ۴۔ سَرَعَانَ عُمَرُفِ تَکْمِیلِ عَلَیْهِ -

۵۔ شَتَّانَ الْخَادِمُ وَسَیِّدُهُ عِنْدَ الْجُسْرِ - ۶۔ حَیْثُ بَاتَتْ ذُھَبُ اِذَا هَبَّ - ۷۔

اَنْفَقْتُ کَذَا دِیْنَارًا - ۸۔ اَنَا مُبْتَلٰی بِوَجْعِ الْاَضْرَاسِ - ۹۔ اِنْجَمَدَ الثَّلَجُ

عَلٰی جَبَلٍ "مَرٰی" قَبْلَ الْاُمَسِ - ۱۰۔ فِی الْمَهْدِ یَنْطِقُ عَنْ نَجَابَةِ جَدِّهِ -

ترجمہ : ۱۔ اے نوکرانی شہد۔ وہی اور سرکہ لاؤ۔ ۲۔ اے لوگو چور کو پکڑو۔ ۳۔ دُور رہ گیا

دُور رہ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ۴۔ عمر نے اپنے علم کی تکمیل میں جلدی کی

۵۔ نوکر اور اس کا آقا پل کے قریب جُدا ہو گئے۔ ۶۔ جہاں تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔

۷۔ میں نے اتنے دینار خرچ کیے۔ ۸۔ میں دُرُھوں کے درویش مبتلا ہوں۔

۹۔ پرسوں مری کے پہاڑ پر برف جمی۔ ۱۰۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔

(لفظی - پنگھوڑے ہی میں اپنے دادا کی شرافت کی گواہی دے رہا ہے)



۱۔ قریب ہے کہ بجلی اُن کی پینائیوں کو اچک لے جائے۔ ۲۔ قریب ہے کہ کبوتر  
 فضا میں اُڑنے لگے۔ ۳۔ قریب ہے کہ آسمان سے بارش برسے۔ ۴۔ شاید کہ تم کسی  
 چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے بُری ہو۔ ۵۔ سپہ سالار لشکر کی صفوں کے درمیان چکر  
 لگانے لگا۔ ۶۔ بچہ اپنا سبق پڑھنے لگا۔ ۷۔ عمر اچھا لڑکا ہے۔ ۸۔ حمیدہ بُری ماں ہے۔  
 ۹۔ ٹیشن ماسٹر کا نوکر حمیدہ بُرا آدمی ہے۔ ۱۰۔ لڑکی کا ماموں رشید اچھا آدمی ہے۔ ۱۱۔  
 اس جماعت کے طالب علم کس قدر لمبے ہیں۔ ۱۲۔ خالد کتنا سخی ہے۔ ۱۳۔ ہمارے  
 کالج کے پرنسپل صاحب کس قدر شریف ہیں۔ ۱۴۔ لوگ علماء کی کس قدر عزت  
 کرتے ہیں۔ ۱۵۔ شاید ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔  
 ترجمہ: ۱۔ کَادَ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ۔ ۲۔ کَادَ الْعَصَا مَرِيطِيرًا فِي الْفَضَاءِ  
 ۳۔ أَوْشَكَ أَنْ يُمِطَرَ السَّمَاءُ۔ ۴۔ عَسَى أَنْ تُحِبَّوْا شَيْئًا وَهُوَ كَرَهُ لَكُمْ  
 ۵۔ جَعَلَ الْقَائِدُ يَجُولُ بَيْنَ صُفُوفِ الْعُسْكَرِ۔ ۶۔ أَخَذَ الْوَلَدُ يَقْرَأُ  
 دُرْسَهُ۔ ۷۔ نِعِمَ الْوَلَدُ عُمَرُ۔ ۸۔ بَسَّتِ الْأُمُّ حَمِيدَةً۔ ۹۔ سَاءَ  
 خَادِمُ رَئِيسِ الْمَحَطَّةِ حَمِيدٌ۔ ۱۰۔ حَبَّذَ أَنْحَالُ الْيَنْتِ رَشِيدٌ۔ ۱۱۔  
 مَا طَوَّلَ طَلِبَةُ هَذِهِ الدَّرَجَةِ۔ ۱۲۔ أَجُودُ بِخَالِدٍ۔ ۱۳۔ مَا أَكْرَمَ رَئِيسُ  
 كَلْبَتِنَا۔ ۱۴۔ مَا أَشَدَّ اِكْرَامَ النَّاسِ لِلْعُلَمَاءِ۔ ۱۵۔ لَعَلَّ أَنْ تَكْرَهُوا  
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔